



سوال

(219) واجب اور مندوب کے ترک پر سجدہ سو

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا واجبات اور مندوبات دونوں کے ترک پر سجدہ سو کرنا ہوگا یا صرف واجب کے ترک کرنے پر؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر تم نماز کا کوئی واجب عمل بھول جاتی ہو تو سجدہ سو کرنا واجب ہوگا اور اگر تم کوئی مستحب عمل بھول جاتی ہو تو سجدہ سو مستحب ہوگا۔ اس موقف کی تائید پر امام ان قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کا وثوق دلالت کرتا ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو دلیل بنایا ہے جس کو ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ بلاشبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(لکل سنو سجدتان بَعْدَ مَا یُسَلِّمُ) [1]

"ہر سو کے لیے اسلام کے بعد دو سجدے ہیں۔"

لیکن تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان بَعْدَ مَا یُسَلِّمُ پر ہی نہ اکتفا کر لینا کیونکہ سو کے سجدوں کی مختلف جگہوں کے متعلق مختلف احادیث ہیں۔ اور اس مسئلہ میں راجح بات یہ ہے کہ ہر حدیث کو اس کی جگہ پر عمل دیا جائے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دو رکعتیں بھول گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد دو سجدے کیے۔ اور اگر نماز میں ایسی جگہ سو ہو اسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ سو نہیں ہوا تو تم کو دو باتوں میں اختیار ہے کہ تم سلام سے پہلے سجدے کر لو یا بعد میں کر لو۔ (فضیلت الشیخ محمد بن عبدالمقصود)

[1] - حسن سنن ابی داؤد رقم الحدیث (1038)

حذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

عورتوں کے لیے صرف



صفحہ نمبر 207

محدث فتویٰ